

7 اپریل، 2020
 عزیزی اہل خانہ:

ہم میں سے کسی نے بھی یہ تصور نہیں کیا تھا کہ COVID-19 اپنے ساتھ کیا لائے گا۔ اسکولی عمارتوں کا بند ہونا، گھر سے ریموٹ ٹیچنگ اور لرننگ، اور محفوظ رہنے کے لیے ایک دوسرے سے فاصلہ رکھنا۔

یہ ایک مشکل کام رہا ہے جو آپ کی کوششوں اور معاونت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اس وقت کے دوران آپ اور آپکے بچے تعلیم کو جاری رکھنے کے لیے انتہائی محنت کر رہے ہیں، اور ایسا ہی نیویارک شہر محکمہ تعلیم کے 150,000 سے زیادہ عہد بستہ معلمین اور عملہ کر رہا ہے۔ میں اس اعانت کے لیے انتہائی شکرگزار ہوں جو آپ نے اپنے بچوں کو فراہم کی ہے جب ہم سب نے تعلیم کے اس ایک بالکل نئے طریقے کو اپنانے کے لیے تیزی سے کام کیا ہے۔ یہ خلل انگیز اور پریشان کن وقت ہے جو اپنے ساتھ بہت سی مسابقتیں اور ایک مسلسل بدلتی ہوئی صورت حال لایا ہے۔ لیکن آپ کی مدد سے، ہم ہر روز پیش رفت کر رہے ہیں۔

اس تناظر میں، اہم تجدیدات اور یاد دہانیاں ہیں جو میں آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں:


- **اسکول بند ہونا:** ریاست نے اعلان کیا ہے کہ نیویارک ریاست میں تمام اسکول اب 29 اپریل، 2020 تک بند رہیں گے۔
- **ریجنٹس امتحانات:** ریاست نے جون 2020 ریجنٹس امتحانات کو منسوخ کر دیا ہے۔ ہائی اسکول طلبا کے خاندانوں کو جلد ہی اس بارے میں مزید رہنمائی موصول ہوگی کہ یہ سند یافتگی کے مطلوبات پر کس طرح اثر انداز ہوگا۔ مختصراً، وہ طلبا جنہوں نے جون 2020 میں ریجنٹس امتحانات دینے کا منصوبہ بنایا تھا وہ اپنا ڈپلومہ حاصل کرنے کے لیے ان امتحانات سے مستثنی ہونگے، لیکن انہیں سند یافتہ ہونے کے لیے مطلوبہ کورس کریڈٹس مکمل کرنے لازمی ہیں۔ ہمارا ہدف یہ یقینی بنانا ہے کہ اس سال سند یافتگی کی راہ پر گامزن طلبا اپنے ہائی اسکول کی کامیاب تکمیل کی جانب بدستور اپنے راستے پر رہیں۔
- **ریاضی اور ELA امتحانات:** ریاست نے گریڈز 3 سے 8 تک کے لیے ریاضی اور فنون انگریزی زبان کے امتحانات منسوخ کر دیے ہیں۔
- **AP امتحانات:** کالج بورڈ نے اعلان کیا ہے کہ AP امتحانات اسکول کی عمارتوں میں منعقد نہیں ہونگے، تاہم طلبا گھر پر AP امتحانات دے سکیں گے۔ ہم جلد ہی اسکولوں اور طلبا کو اس بارے میں رہنمائی فراہم کریں گے کہ ان تبدیلیوں کا نفاذ کس طرح کیا جائے۔ اگر آپ کو ایک آلے کی ضرورت ہے اور آپ نے ابھی تک ایسا نہیں کیا ہے، ہم آپکی محکمہ تعلیم کا ریموٹ لرننگ آلات کا سروے ([remote learning device survey](#)) مکمل کرنے کی حوصلہ افزائی کریں گے۔
- **ریموٹ لرننگ کے آلات:** حفاظت اور رازداری کا تحفظ کرنے کے لیے، ہم اسکولوں سے Zoom کو بطور ایک ورچوئل میٹنگ ٹول استعمال کرنے سے گریز کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ بہت سے اسکول اس وسیلے کو استعمال کر رہے ہیں اور ہم ایسا ایک رات میں ہوجانے کی توقع نہیں رکھتے ہیں، لیکن ہم معلمین کو گوگل ہینگ آؤٹس میٹ (Google Hangouts) یا مائکروسافٹ ٹیمز (Microsoft Teams) میں منتقل ہونے میں مدد کر رہے ہیں— یہ دونوں ہی بہت سے اسکولوں کے ذریعے مسلسل استعمال کیے جا رہے ہیں۔

میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معلمین کی پیشہ ورانہ مہارت اور عہدبستگی اس سے زیادہ کبھی نمایاں نہیں ہوئی جیسی کہ اس غیر معمولی بحران کے دوران رہی ہے۔ انہوں نے اس بحران کا کامیابی سے مقابلہ کیا ہے، ہمارے تدریسی نمونے کو بنیادی طور پر تبدیل کیا ہے اور ساتھ ہی اپنے خاندانوں کی تبدیل شدہ ضروریات سے بھی نمٹے ہیں۔

اسی طرح سے، آپکی مدد اور شراکت ہمارے طلبا کی موثر طور پر نمٹنے، محفوظ رہنے اور سیکھنے میں مدد کرنے میں اہم رہے ہیں— اور ساتھ ہی آپ نے اپنی متعدد پریشانیوں کا بھی سامنا کیا ہے۔ آپ اور ہمارے معلمین ملکر جو کچھ کر رہے ہیں اس کے لیے شکریہ، مجھے اعتماد ہے کہ ہمارے بچے ان وقتوں کے دوران پُر معنی مصروف عملی اور پیش رفت جاری رکھیں گے۔

ہمارے معلمین کی مانند اس کٹھن وقت میں، آپ ہمارے سچے ہیروز ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ مشکل ہے جب ہم سب اس بے مثال وقت میں ملکر راہیں تلاش کر رہے ہیں۔ لیکن ہم اس راستے میں آپکی مدد کے لیے ہر کام کرتے رہیں گے جو ہمارے اختیار میں ہے۔

بخلوص،



Richard A. Carranza, Chancellor

چانسلر
نیو یارک شہر محکمہ تعلیم